

103421 - بیوی نے خاوند اور سسرال والوں پر سب و شتم کیا تو خاوند نے تین طلاقیں دے دیں

سوال

میں تیونس کا شہری ہوں میرا ایک تیونسی لڑکی سے تعارف ہوا جس کے پاس فرانس کی شہریت تھی، یہ لڑکی اپنے لباس اور معاملات میں یورپ کی نقالی کرتی چنانچہ میں نے اسے نماز ادا کرنے اور پردہ کرنے کی دعوت دی تو اس نے اسے قبول کر لیا اور اسے تسلیم کرتے ہوئے پردہ کرنے لگی۔

لہذا میں نے اس سے منگنی کر لی لیکن ایک ماہ بعد ہی وہ پھر اسی طرح ہو گئی اور مجھے کہنے لگی شادی کے بعد کروں گی، اس لیے میں اس سے شادی پر مجبور ہو گیا میرا خیال یہ تھا کہ وہ غلط اور بری سوسائٹی اور غلط قسم کی سہیلیوں اور دوست و احباب سے دور ہو دین پر عمل کرنے لگے گی، میں اسے ہر وقت دین پر عمل کرنے کی نصیحت کرتا رہتا۔

لیکن اس کی والدہ ہمیشہ اس کی سوچ پر مسلط رہی اور اسے کہتی "تم ابھی چھوٹی ہو، اپنی زندگی گزارو، ابھی پردہ کرنے اور نماز ادا کرنے کا وقت نہیں" وہ ہمیشہ میری توہین کرتی اور مجھ پر سب و شتم کرتی لیکن میں صبر سے کام لیتا رہا۔

اس وقت میری بیوی فرانس میں ہے اور وہ آٹھ ماہ کی حاملہ بھی ہے، لیکن میں تیونس میں ویزہ کا انتظار کر رہا ہوں تا کہ بیوی کے پاس جا سکوں، کیونکہ میں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی ہے اور استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ مجھے دینی غیرت ہے، اور میں اب بھی اسے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ان یورپی عادات سے باز آ جائے جس کی کوئی دلیل اور اصل نہیں اور نہ ہی دین ہے بلکہ وہ اسے چھوڑ کر اچھائی اور نیکی کی طرف واپس پلٹ آئے لیکن وہ انہیں عادات پر مصر ہے۔

چنانچہ میں بہت تنگ ہو گیا اور ٹیلی فون پر ہمارا جھگڑا بھی ہوا تو وہ مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دینے لگی اور سارے خاندان کو برا کہنے لگی، اور ایسی کلام کی جو میں نے ساری زندگی اپنی زبان سے نہیں نکالی تھی، چنانچہ میں نے غصہ کی حالت میں فرانسیسی زبان میں اسے کہا:

"tu es divorcée ، tu es divorcée ، es divorcée tu "

اپنے اس معاملہ میں پریشان ہوں، برائے مہربانی میں یہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ؟

یہ علم میں رکھیں کہ بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جلد بازی میں غلطی کر لی ہے،

اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اب میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

آدمی کا طلاق کے الفاظ ادا کرنے میں جلدبازی سے کام لینا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ بعض اوقات اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق اس لیے مشروع نہیں کی کہ اس سے غصہ ٹھنڈا کیا جائے، بلکہ طلاق تو مشروع اس لیے کی ہے تا کہ آدمی اسے اس صورت اور حالت میں استعمال کرے جب وہ نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہو، اور یہ بھی اس صورت میں جب نکاح ختم کرنے کا کوئی سبب پایا جائے۔

اس بنا پر آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے غصہ یا پھر خوشی پر حالت میں طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔

دوم:

غصہ کی حالت میں طلاق دینے والے کی تین حالتیں ہیں:

پہلی حالت:

غصہ اتنا کم ہو کہ وہ اس کے ارادہ اور اختیار پر اثر انداز نہ ہو، تو اس حالت میں دی گئی طلاق صحیح ہے اور یہ واقع ہو جائیگی۔

دوسری حالت:

اگر غصہ اتنا شدید ہو کہ اسے علم ہی نہ رہے کہ وہ زبان سے کیا نکال رہا ہے، اور اسے شعور تک نہ ہو تو اس حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مجنون اور پاگل کی جگہ شمار ہوگا جس کے اقوال کا مؤاخذہ نہیں ہے۔

ان دونوں حالتوں کے حکم میں علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن تیسری حالت باقی ہے وہ کہ:

تیسری حالت:

اتنا شدید غصہ جو آدمی کے ارادہ پر اثر انداز ہو جائے اور وہ ایسی کلام کرنے لگے جس پر اس کا کنٹرول نہ ہو گویا کہ اس سے یہ بات نکلائی جا رہی ہے، اور اپنے اقوال اور افعال پر اسے کنٹرول نہ رہے۔

تو غصہ کی یہ قسم ایسی ہے جس کے حکم میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح یہی ہے۔ جیسا کہ

شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے - یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" شدید غصہ اور جبر کی حالت میں نہ تو طلاق ہے اور نہ ہی آزادی "

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (2046) علامہ البانی رحمہ اللہ نے الارواء الغلیل (2047) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اغلاق کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ: اکراه یعنی جبر اور شدید غصہ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے اس قول کو ہی اختیار کیا ہے، اور اس سلسلہ ایک مشہور کتابچہ بھی " اغاثة اللہفان فی حکم طلاق الغضبان " کے نام سے تالیف کیا ہے۔

مزید آپ سوال نمبر (45174) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

اس بنا پر اگر آپ کا غصہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے آپ کو یہ الفاظ ادا کرنے پر مجبور کر دیا، کہ اگر یہ غصہ نہ ہوتا تو آپ طلاق نہ دیتے، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔

سوم:

اگر آدمی اپنی بیوی کو کہے: تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، یا پھر وہ کہے " تجھے تین طلاقیں " تو اس سے ایک طلاق ہی واقع ہوگی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہم اللہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے، اور معاصر علماء کرام میں سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے راجح قرار دیا ہے "

دیکھیں: الشرح الممتع (13 / 42)۔

واللہ اعلم .